

Nasirat ul Ahmadiyya UK Ijtema Syllabus 2018

Rules and Regulations

All Nasirat should attend local, regional and national Ijtema.

TILAWAT-E-QUR'AN

Every Nasira **MUST** recite their Tilawat with text in front of them so no possibility of error is made to Quranic text. Judges will deduct marks for rule not followed.
Most points will be allocated for **BASIC** pronunciation and Tajweed.

Translation Reference: Maulvi Sher Ali (ra)

ENGLISH & URDU SPEECH COMPETITIONS

Nasirat, with guidance, should write their own speeches. Judges will award points for speech content, delivery and their content to be easily understood by children and relevant to their age group.
Memorisation **NOT** needed.

Speeches time limit:

Age: 7-9	2 minutes
Age: 10-12	2 minutes
Age: 13-14	3 minutes

There will be a leeway of 15 seconds either way.
So, no marks will be deducted if they go over or under 15 seconds.

HIFZ-E-NAZM

Verses may be repeated. Judges will mark for voice, tune/control and pronunciation. Extra marks will be awarded for originality/creativity. All Nazms **MUST** be memorised at Regional and National Level.

HIFZ-E-QUR'AN

Masha'Allah, due to the growing number of our Nasirat,
Hifz-e-Qur'an must now be tested at local level and prizes given out at regional level.

The judges for this competition must be approved by the local Sadr, and should be chosen on her correct recitation of the Holy Qur'an, and she must neither be too strict, nor too lenient. Nasirat should **NOT** be judged on Arabic pronunciation or Tarteel for Hifz-e-Qur'an. If more than one judge is required, then they should all work on the same set criteria so that all Nasirat are judged fairly. It is also permitted to invite judges from neighbouring Majalis if that is deemed more suitable by the Sadr.

Salihaat (7-9)

TILAWAT-E-QUR'AN (7-9)

Surah Al-Fatihah

In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.
All praise belongs to Allah, Lord of all the worlds,
The Gracious, the Merciful,
Master of the Day of Judgment.
Thee alone do we worship and Thee alone do we implore
for help.
Guide us in the right path —
The path of those on whom Thou hast
bestowed *Thy* blessings, those who have not
incurred *Thy* displeasure, and those who have not gone
astray.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ②
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ⑦
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑧

اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے
دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔
تمام حمد اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔
بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار
رحم کرنے والا ہے۔
جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔
تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔
ہمیں سیدھے راستہ پر چلا۔
ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تُو نے انعام کیا۔ جن پر غضب
نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔

English & Urdu Speech Competitions (7-9)

English	اردو
The Holy Prophet's ^{saw} love for children	حضرت محمد مصطفیٰ کا بچوں سے پیار
Why we should respect our mothers	ہمیں اپنی ماؤں کی عزت کیوں کرنی چاہئے
Why telling the truth is important	سچ بولنا کیوں ضروری ہے
Why should I eat healthy food	مجھے صحت مند غذا کیوں لینی چاہیے
My favourite Quranic Prayer and why	میری پسندیدہ قرآنی دعا کونسی ہے اور کیوں

Nasirat ul Ahmadiyya UK
Ijtema Syllabus 2018

HIFZ-E-NAZM (7-9)

Durr-e-Sameen	Kalam-e-Mahmud	Hazrat Mir Mohammad Ismaeel sahib
<p>خُدا کے پاک لوگوں کو خُدا سے نُصرت آتتی ہے جب آتی ہے تو پھر عَالَم کو اک عَالَم دیکھاتی ہے وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خَسِ رہ کو اُڑاتی ہے وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مُخالف کو جلاتی ہے کبھی وہ خاک ہو کر دُشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے</p>	<p>ہے دستِ قَبْلہ نما لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے دردِ دل کی دَوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کِسی کی چِشْمِ فِئسُوں ساز نے کیا جائو تو دِل سے نِکلی صَدا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جو پُھونکا جائیگا کانوں میں دل کے مُردوں کے کرے گا حَشرِ بَیَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ</p>	<p>اَلہی مجھے سیدھا رستہ دیکھا دے میری زندگی پاک و طیب بنا دے مجھے دین و دنیا کی خُوبی عطا کر ہر اک درد اور دُکھ سے مجھ کو شِفا دے زُباں پر میری جھوٹ آئے نہ ہر گز کچھ ایسا سَبِقِ راستی کا پڑھا دے</p>
<p>God's Divine Help comes to His chaste servants When it comes the whole world is shown a new world It turns into the wind that blows away all that lays scattered across the path It becomes the fire that burns every opponent It sometimes turns into a dust that falls upon the enemies</p>	<p>The hand that directs towards the Ka'aba is La-illaha illallah "There is none worthy of worship except Allah" The remedy for every heartache is La- illaha illallah "There is none worthy of worship except Allah" Whenever those Enchanting Eyes cast a magic spell, from my heart rose the call: La-illaha illallah "There is none worthy of worship except Allah" Whatever is blown into the ears of the dead of heart will cause a turmoil La-illaha illallah "There is none worthy of worship except Allah"</p>	<p>My God! Guide me to the right path and make my life pure and pious Grant me the virtues of Faith and cure my every pain and sorrow Teach me such a lesson of honesty that falsehood never be uttered by my tongue Hatred for sins and aversion for evil so that my heart be ever full of noble intentions</p>

HIFZ-E-QUR'AN (7-9)

- Surah Al-Baqarah verses 1-5 without Translation
- Surah Al-Ikhlās and Surah Al-Kauthar
- Surah Al-Falaq and Surah Al-Kafirun
- Surah Al-Nas
- Qur'anic Prayer Chapter 17: Verse 25 without Translation:

رَبِّ اَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا۔

My Lord, have mercy on them even as they nourished me in my childhood.

اور کہہ کہ اے میرے رب! ان دونوں پر رحم کر، جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔

Qanitaat (10-12)

TILAWAT-E-QUR'AN (10-12)

Surah Al-Baqarah Verses 1-4

In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.
Alif Lam Mim.

This is a perfect Book; there is no doubt in it; it is a guidance for the righteous, Who believe in the unseen and observe Prayer, and spend out of what We have provided for them;

اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔
أَنَا اللَّهُ أَعْلَمُ: میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔
یہ ”وہ“ کتاب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت دینے والی بے متقیوں کو۔
جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
الْمِ ②
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى ③
لِلْمُتَّقِينَ ④
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ⑤

ENGLISH & URDU SPEECH COMPETITIONS (10-12)

English	اردو
How my beloved Khalifa is a protective shield for me	میرے پیارے خلیفہ وقت، کس طرح میرے لیے حفاظتی ڈھال ہیں
My experience of Allah accepting my prayers	قبولیتِ دعا کے ذاتی تجربات
How I practise tolerance in my everyday life	روز مرہ کی زندگی میں کس طرح میں صبر کا مادہ اختیار کرتی ہوں
The importance of MTA	MTA کی اہمیت
How are Ahmadis joined together across the globe	دنیا جہاں کے احمدیوں میں یگانگت کس طرح ہے

Nasirat ul Ahmadiyya UK
Ijtema Syllabus 2018
HIFZ-E-NAZM
(10-12)

Durr-e-Sameen	Kalam-e-Mahmud	Kalam-e-Tahir
<p>ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے کوئی دین محمدؐ سانہ پایا ہم نے</p> <p>کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلاوے یہ نمر باغ محمدؐ سے ہی کھایا ہم نے</p> <p>ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا نور ہے نور، اٹھو دیکھو سنایا ہم نے</p>	<p>کرو جان قربان راہ خدا میں بڑھاؤ قدم تم طریق وفا میں</p> <p>فرشتوں سے مل کر اُڑو تم ہوا میں مہک جائے خوشبوئے ایمان فضا میں</p> <p>ہوا کیا کہ دشمن ہے ابلیس پیارو خدا نے نوازا ہے ہر دوسرا میں</p>	<p>گلشن میں پھول ، باغوں میں پھل آپ کے لئے جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لئے</p> <p>میری بھی آرزو ہے ، اجازت ملے تو میں آشکوں سے اک پرووں غزل آپ کے لئے</p> <p>مڑگاں بنیں ، حکایت دل کے لئے قلم ہو روشنائی ، آنکھوں کا جل آپ کے لئے</p>
<p>I deliberated in all directions until my thinking became exhausted, no religion could I find like the religion of Muhammad ^{saw}</p> <p>There is no religion that shows such a sign, this fruit we eat only from the orchard of Muhammad ^{saw}</p> <p>I have personally tried and tested Islam, "It is nothing but light, wake up and see" we have proclaimed.</p>	<p>Sacrifice your life in the path of God, direct your footsteps in the way of loyalty</p> <p>In the company of angels, fly high in the atmosphere, that the fragrance of faith may spread all around</p> <p>So what if Iblis is our enemy, O Dear Ones! God has blessed us in both the worlds</p>	<p>Flowers blossoming in the rosarium, orchards laden with fruit are all but decreed for you. For you are the lotuses unfurling on the drowsy lake</p> <p>Oh, how I crave to string you a lyric, threaded with tears of my love, if I am so permitted</p> <p>The lashes of my eyes would pen the tales of my heart's desire. The blood from my heart would provide the colour to the tears to write with.</p>

HIFZ-E-QUR'AN (10-12)

- Surah Al-Baqarah Chapter 2 : Verses 1-10 without Translation
- Surah Al Nasr and Surah Al Fil and Surah Al Ma'un and Ayat-ul-Kursi
- Qur'anic Prayer Chapter 2: Verse 251 without Translation:

رَبَّنَا أفرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبَّتْ أقدامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

O our Lord, pour forth steadfastness upon us,

And make our steps firm, and help us against the disbelieving people.

اے ہمارے رب ، ہم پر صبر نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر۔

Mohsinaat (13-14)

TILAWAT-E-QUR'AN (13-14)

Surah Al-Nur Verses 56-57

(Nasira can be tested from any part of the following extract)

Allah has promised to those among you who believe and do good works that He will surely make them Successors in the earth, as He made Successors *from among* those who were before them; and that He will surely establish for them their religion which He has chosen for them; and that He will surely give them in exchange security *and peace* after their fear: They will worship Me, *and* they will not associate anything with Me. Then whoso is ungrateful after that, they will be the rebellious. And observe Prayer and give the Zakat and obey the Messenger, that you may be shown mercy.

تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے لئے ان کے دین کو، جو اس نے ان کے لئے پسند کیا، ضرور تمکنت عطا کرے گا اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے۔ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٦﴾
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٧﴾

ENGLISH & URDU SPEECH COMPETITIONS (13-14)

English	اردو
What impact has the coming of the Promised Messiah (as) had on the world today	حضرت مسیح موعود کی آمد سے دنیا پہ کیا اثر ہوا ہے
Purdah and its importance	پردہ کی اہمیت
Upholding the truth even when it's not easy	مشکل وقت میں سچائی اختیار کرنا
My mother, my friend	میری ماں میری دوست
The difference Humanity First has made to peoples' lives	ہیومنٹی فرسٹ نے کس طرح لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے میں کردار ادا کیا ہے

Nasirat ul Ahmadiyya UK Ijtema Syllabus 2018

HIFZ-E-NAZM (13-14)

Durr-e-Sameen	Kalam-e-Mahmud	Kalam-e-Tahir
<p>سونے والو! جلد جاگو یہ نہ وقتِ خواب ہے جو خبر دی وَحیِ حَقِّ نے اُس سے دل بتیاب ہے زلزلے سے دیکھتا ہوں میں زمیں زیر زبر وقت اب نزدیک ہے آیا کھڑا سیلاب ہے ہے سر رہ پر کھڑا نیکوں کی وہ مولے کریم نیک کو کُچھ غم نہیں ہے گو بڑا گرداب ہے</p>	<p>آ آ کہ تری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں آ آ کہ تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں تُو آئے تو ہم تجھ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں جاں نذر میں دیں تجھ کو تجھے دل میں بسائیں آپ آکے محمدؐ کی عمارت کو بنائیں ہم کُفر کے آثار کو دنیا سے مٹائیں</p>	<p>وَقْتِ کم ہے - بہت ہیں کام - چلو ملگجی ہو رہی ہے شام - چلو زندگی اس طرح تمام نہ ہو کام رہ جائیں ناتمام - چلو کہہ رہا ہے خِرامِ بادِ صبا جب تلک دم چلے مُدام چلو مَنْزِلِیں دے رہی ہیں آوازیں صُبْحِ مَحْوِ سفر ہو ، شام چلو</p>
<p>O ye who sleep, wake up quickly; This is not the time for dreaming. A true revelation brings news that renders my heart extremely anxious</p> <p>I see a fierce tremor turning the earth topsy turvy, the time is near; a great flood is almost upon us</p> <p>Before the path of the pious stands their Noble Lord; No anguish befalls the pious, though fearsome indeed is the vortex</p>	<p>Dear Lord, we humbly call upon You to come to us. We will welcome You along a path illuminated with the light of our eyes. We will welcome You with open arms and will embrace You with all our hearts. If You were to grace us with Your Presence, we will honour you with the most exalted position our faculties can provide. We will lay down our lives for You and make for You an abode right inside our hearts. Grace the world with Your presence and so complete the construction of the building of Islam; the first brick of which was laid by Muhammad ^{saw}. With Your help we will wash the world clean of all un-Islamic behaviour</p>	<p>Short is the time, Enormous is the task, Move on; The evening is seeping into dusky gray, Move on</p> <p>Let our life not see such end, as our works should remain un-ended, Move on; The gate of the swift breeze is Beckoning us, Move on.</p> <p>As long as you breathe, Move on The destinations are sending messages, Tread the paths in the Mornings and in the evenings, Move on.</p>

HIFZ-E-QUR'AN (13-14)

- Surah Al-Baqarah Chapter 2 : Verses 1-17 without Translation
- Surah Al Qari'ah, Al Zilzal, Al Adiyat, Al Humazah.
- Qur'anic Prayer Surah Aal-e-Imran : Verses 26-28 without Translation

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ نُوتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۗ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۗ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ